

وَلَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ  
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

# قرآن مجید

مست ترجمہ  
عالمیجات حضرت مولانا محمد علی صاحب  
ذوق  
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن

۳

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَكُوشَىءَ اللَّهِ مَا أَفْتَنَّا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۖ وَكُوشَىءَ اللَّهِ مَا أَفْتَنَّا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۲۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵﴾  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲۶﴾  
 لَا أِكْرَاهُ فِي الدِّينِ لِقَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَكُنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾

ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو مراتب میں (اُو) بلند کیا اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے دلائل دیئے اور روح القدس سے اس کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو اُن کے بعد آئے آپس میں بٹرتے۔ اس کے بعد اُن کے پاس کھلی دلیلیں آچکی تھیں، لیکن انھوں نے اختلاف کیا، پس اُن میں سے وہ ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے وہ ہے جس نے انکار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے، کر دیتا ہے۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ زندہ خود قائم، قائم رکھنے والا ہے۔ اس پر نہ اونگھ غالب آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کا علم آسمانوں اور زمین پر بھادی ہے اور ان دنوں کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی (مناوانا) نہیں ہدایت (کی راہ) مگر ایسی سے واضح ہو ہے، پس جو شخص شیطان کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے ایک محکم جائے گرفت کو مضبوط کر لیا جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو سخت اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے ولی شیطان ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ والے ہیں وہ اسی میں رہیں گے۔

کیا تو نے اس (کی حالت) پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اُسے مُکْتَباً یا جب ابراہیم نے کہا میرا رب ہے جو زندگی بخشا اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا اور مارتا ہوں، اور ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اسے مغرب نکال، پھر وہ جو کافر تھا حیران رہ گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔

یا اس کی مثال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی پر گزرا اور وہ دیران تھی، اس کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا اللہ اسے اس کی موت کے بعد کب زندہ کرے گا۔ سوال اللہ نے اسے ایک سو سال موت کی حالت میں رکھا پھر اُسے اُٹھایا یا کما تو کتنا ٹھہرا، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ ٹھہرا ہوں، کہا بلکہ تو سو سال ٹھہرا۔ پس تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، وہ نہیں سڑا اور اپنے گدھے کو دیکھ اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشان بنائیں اور ہڈیوں کو بھی دیکھ، ہم انہیں کیوں کر اُٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت پڑھاتے ہیں۔ پس جب اس کے لیے بات کھل گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مُودِبٌ کو زندہ کرتا ہے، کہا کیا تو نے نہیں مانا کہا ہاں مگر اس لیے کہ میرا دل

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۹﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءَ إِزْرَهُمْ فِي رَبِّهِمْ أَنْ أَنذَرَهُمُ اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ إِذْ قَالَ إِزْرَهُمْ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِزْرَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالنَّمِيسِ مِنَ الشَّرِيفِ فَآتَتْ بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَمِيتَ الَّذِي كَفَرًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱۰﴾

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۹﴾

وَرَأَى قَالَ إِزْرَهُمْ رَبِّي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ نُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ

کو اطمینان حاصل ہو کہ ما تو چار پرند لے پھر انہیں اپنے ساتھ بلا لے پھر ان میں سے ایک ایک حصہ ہر ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلاؤ، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان لے کر اللہ غالب حکمت والا ہے۔

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ کی مثال ہے جو سات بالیں اگائے ہر ایک بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا کر کے دیتا ہے اور اللہ کثرت و الا جاننے والا ہے۔

وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

نیک بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ستارک باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ سو اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسے اور اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے اس میں سے کچھ بھی نہ پاسکیں گے جو کما یا تھا اور اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔

لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَاخْذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الظَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًا وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَّ اللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَّ اللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا اَذَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۳﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا اَذَى وَّ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَّ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ  
جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا  
ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۵﴾

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ  
تُخَيْلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ  
أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا مِّمَّا  
أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ  
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُعْضُوا فِيهِ ط وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَسِيدٌ ﴿۳۷﴾  
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ  
بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ  
وَفَضْلًا ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

يُوتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ط وَمَنْ يُؤْتِ  
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط وَمَا  
يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۹﴾

اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے  
اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس بلاغ کی  
مثال کی طرح ہے جو اعلیٰ درجہ کی زمین پر ہو پھر اس پر زور کا مینہ  
پڑے تو وہ اپنا پھل دو چنڈے اور اگر اس پر زور کا مینہ نہ پڑے تو ہلکا مینہ  
ہی (کافی ہے) اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔

کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور  
انگوروں کا ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں  
ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپے نے آیا ہو اور اس  
کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، پھر اسے ایک گولا پینچے جس میں  
آگ ہو، پس وہ جل جائے اسی طرح اللہ تمھارے لیے باتیں کھول  
کر بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو۔

لے لوگو! جو ایمان لائے ہو ان اچھی چیزوں سے خرچ کرو جو تم  
کھاتے ہو اور اس سے جو ہم نے تمھارے لیے زمین سے نکالا ہے  
اور روٹی چیز دینے کا قصد نہ کرو اس میں سے تم خرچ کرو گے  
حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں سوائے اس کے کہ اس کی قیمت کم  
کراؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔

شیطان تم کو تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تمھیں بخل کا حکم دیتا ہے  
اور اللہ تمھیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور  
اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔

وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت دی جائے  
تو اسے بہت بھلائی دی گئی۔ اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر  
روہی جو عقل والے (ہیں)

اور جو کچھ خرچ کرنے کی چیز تم خرچ کرو یا کوئی منت مان لو، تو اللہ اُسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔

اگر تم خیرات کھلے طور پر دو تو کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر تم اُسے چھپاؤ اور محتاجوں کو دو تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے اور وہ بعض تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے

ان کی ہدایت تیرے ذمے نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ اور تم خرچ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا چاہو اور جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے (سوال سے) بچنے کے باعث ناواقف ان کو دولت مند سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیگا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور جو کچھ مال تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے۔

جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور ظاہر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جو لوگ سو دیکھتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہونگے، مگر اس طرح سے

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ سَدْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ ﴿۳۷﴾

إِنْ بُدُوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۸﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْهُمُ مَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِذَا حَاقُوا وَمَا يَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۱﴾

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا

وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باؤلا بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، سو جس کے پاس اپنے رب سے نصیحت آگئی پھر وہ رک گیا تو اس کے لیے ہے جو گور چیکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو پھر لینے لگے تو وہی آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑیں گے۔

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گزار گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔

جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی ڈر نہیں، اور نہ وہ غم گین ہوں گے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوٰے کرو اور جو کچھ سود سے باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔

پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے مال میں نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔

اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک ہمت دینی چاہیے اور اگر تم خیرات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

اور اس دن سے اپنا بچاؤ کرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹنا چاہو گے پھر شخص کو جو اس نے کیا یا پورا دیا جائیگا اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائیگا

يَقَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ السَّيِّئِ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا  
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۵﴾

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَأُورِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۷۶﴾  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ  
آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۷۷﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا  
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۷۸﴾  
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۷۹﴾

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ  
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾  
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ  
تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۸۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ  
 إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوا وَلْيَكْتُبْ  
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
 أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
 الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ  
 وَأُسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
 مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ  
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں مفروضہ کے لیے قرض کا  
 معاملہ کرو تو اسے لکھ لو۔ اور چاہیے کہ تمھارے درمیان لکھنے  
 والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے  
 جیسا اللہ نے اُسے سکھایا، اور ضرور لکھوے اور چاہیے  
 کہ وہ جس پر حق ہے لکھائے اور وہ اللہ اپنے رب کا تقویٰ  
 اختیار کرے اور اس سے کچھ کمی نہ کرے، پھر اگر وہ شخص جس پر  
 حق ہے کم عقل یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو  
 تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اور دو گواہ  
 اپنے مردوں میں سے گواہی کے لیے بلا لیا کرو۔ پھر اگر  
 دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان گواہوں  
 میں سے ہوں جن کو تم پسند کرو، تاکہ اگر ایک بھول جائے  
 تو ایک ان دونوں میں سے دوسری کو یاد دلا دے۔  
 اور گواہ جب بلائے جائیں انکار نہ کریں اور اس کے وقت  
 تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو و حضورؐ ہو یا بہت۔ یہ اللہ  
 کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے اور گواہی کو بہت  
 مضبوط رکھنے والی ہے اور اس سے بہت قریب ہے کہ تم شک میں نہ  
 پڑو لیکن اگر نقد سودا ہو جس کو تم آپس میں بیٹے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی  
 گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ رکھ لیا  
 کرو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اور  
 اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمھاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ کا  
 تقویٰ کرو اور اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔



اور اگر تم سفر میں ہو اور کھنے والا نہ پاؤ تو رکچہ، با قبضہ گرو رکھ لیا جائے پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے اور اللہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپاتا ہے تو اس کا دل ضرور گنہگار ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۸۶﴾

اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کا تم سے حساب لیگا، پھر وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۶﴾  
أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ تَدَارَأُ نَفَرًا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۸۷﴾

رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن (بھی) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کچھ تفرقہ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اے ہمارے رب تیری حفاظت رحیمت اور تیری طرف ہی انجام کار پہنچتا ہے۔ اللہ کسی پر کچھ لازم نہیں کرتا مگر جس قدر اس کی طاقت ہو اسی کے لیے ہے جو وہ (رحمی) کمائی کرے اور اسی پر ہے جو وہ (دُبری) کمائی کرے اے ہمارے رب ہم کو نہ پکاؤ اگر ہم بھول جائیں یا چونک جائیں اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے اُن پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جس کی طاقت ہم میں نہیں اور ہمیں معاف فرما اور ہماری حفاظت فرما اور ہم

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا دُونَهُ

وَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِرْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٤

پر رحم فرما تو ہمارا مولیٰ ہے۔ پس ہمیں کافر قوم  
پر مدد دے۔

### (۳) سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَانِيَةً

آيَاتُهَا ۲۰۰

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے  
میں اللہ کامل علم رکھنے والا ہوں۔

اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ خود قائم قائم رکھنے والا ہے۔  
اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری اس کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس  
پہلے ہے اور توریت اور انجیل کو۔

لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے پہلے سے نازل کیا اور حق و باطل میں فیصلہ  
اتارا۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب  
ہے اور اللہ غالب سزا دینے والا ہے  
یقیناً اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں کوئی چیلن چھپی ہے اور نہ  
آسمان میں۔

وہی ہے جو تمہاری تصویریں رحموں میں جس طرح چاہتا ہے  
بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، غالب حکمت والا ہے۔

وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری اس میں سے (کچھ)  
محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی اصل ہیں اور کچھ اور متشابہ  
ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اُس کے  
پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے فتنہ پیدا  
کرنے کے لیے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ اس کی (من مانی) تاویل کریں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْم

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٢  
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ٣

مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ٤  
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ ٥ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٦  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فِي السَّمَاءِ ٧

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ  
يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨  
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  
مُتَشَابِهَاتٌ طَمَّاتُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

اور اس کی تائید کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور غفل والوں کے سوائے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کی اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بیشک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔

اے ہمارے رب! ضرور تو لوگوں کو اس دن کے لیے اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کچھ شک نہیں بیشک اللہ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔

جنہوں نے انکار کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کسی کام نہ آئے گی اور وہی آگ کا ایندھن ہیں۔

ان کا حال، فرعون کے لوگوں اور ان کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پس اللہ نے انکو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

جنہوں نے انکار کیا ان سے کہہ دے کہ تم جلد مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جانچے جاؤ گے اور کیا ہی بُرا بچھونا ہے۔

ان دو گروہوں میں جن کی آپس میں مدد بھڑھڑی یقیناً تمہارے لیے نشان تھا، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، اور دوسرا کافر تھا وہ اُن کو ظاہر آنکھ سے اپنے سے دو چند دیکھتے۔

اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے قوت دیتا ہے بصیرت والوں کے لیے اس میں یقینی عبرت ہے۔

اللَّهُمَّ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۷﴾

رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿۱۰﴾

كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ لَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ط وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱۲﴾

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَقَاتَلُوا فِئَةٌ تَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلِهِمْ سَأَىٰ الْعَيْنُ ط وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

لوگوں کو نفسانی خواہشوں کی محبت بھلی معلوم ہوتی ہے  
(جیسے) عورتیں اور بیٹے اور ڈھیروں ڈھیر سونا اور چاندی  
اور پلے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی،  
یہ اس ورلی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس  
اچھا ٹھکانا ہے۔

کہہ کیا میں تم کو اس سے اچھی بات بتاؤں، ان لوگوں کے  
لیے جو تقوے اختیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن  
کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں رہنے والے ہیں اور پاک ساتھی  
اور اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔  
وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ پس ہمارے گناہ  
بخش اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

صبر کرنے والے اور سچ کر دکھانے والے اور فرمانبردار  
اور سچ کرنے والے اور صبح کے وقتوں میں استغفار کرنے والے۔  
اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے اور  
علم والے بھی انصاف پر قائم ہو کر۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں  
غالب حکمت والا ہے۔

دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور انھوں نے جن کو  
کتاب دی گئی اختلاف نہیں کیا۔ مگر اس کے پیچھے کہ ان  
کے پاس علم آچکا ہے آپس کی حسد سے اور جو شخص اللہ کی آیتوں  
کا انکار کرتا ہے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے

پھر اگر تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں نے اپنی توجہ کو اللہ کی  
فرمانبرداری میں لگا دیا ہے اور انھوں نے (بھی) جو میرے پیچھے چلے ہیں اور

مُتَابِعِينَ لِلَّذِينَ أَحْبَبُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأُولَئِكَ يَلْمُوكَ وَالَّذِينَ  
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ  
وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ ذَلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ۝۱۴  
قُلْ أَوْ تَبِعْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ  
اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ  
رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝۱۵  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا  
ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۶

الضَّالِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَ  
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝۱۷  
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ  
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۸

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا  
اختلفَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۹  
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَ  
مَنْ اتَّبَعَنِي فَقُلْ لِلَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ

ان لوگوں کو تجھیں کتاب دی گئی اور امتیوں کو مکہ سے کیا تم فرمانبردار ہو؟ پھر اگر وہ فرمانبردار ہو جائیں تو یقیناً انھوں نے راہ پالی اور اگر پھر جائیں تو تجھ پر پہنچانا ہی ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناسحق قتل کرتے ہیں اور جو ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں کام نہ آئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔

کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ایک گروہ ان میں مرنے موڑتا ہوا پھر جاتا ہے۔

یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے گنتی کے دنوں کے ہمیں آگ نہیں چھوٹے گی اور اس بات نے ان کو ان کے دین میں دھوکا دیا ہے جو وہ انفر کرتے تھے۔

پھر کیا حال ہوگا، جب ہم ان کو اس دن اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر ایک جان کو پورا دیا جائے گا، جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

کہ اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے تیرے ہی

وَالْأَمِیْنِ ؕ اَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمْتُمْ فَقَدْ اٰهْتَدَوْا ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بِصِیْرٍ بِالْعِبَادِ ۝۱۱

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْفِرُوْنَ بِآیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ لَا یَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لَاقْبَسَتْهُمُ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۱۲

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَبَطْتَ اَعْمَالَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ۙ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِیْرٍ ۝۱۳

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اُوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ یَدْعُوْنَ اِلٰی كِتٰبِ اللّٰهِ لِحُكْمِ بَیِّنَةٍ ثُمَّ یَتَوَلّٰی فَرِیْقٍ مِّنْهُمْ وَ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۱۴

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ نَّمَسَّنَا النَّاسُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدٍ وَّ غَرَّهُمْ فِیْ دِیْنِهِمْ مَّا كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۝۱۵

فَكِیْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَیَوْمِ لَا رَیْبَ فِیْهِ وَّ وُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝۱۶

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۙ بِيَدِكَ

ہاتھ میں (سب) بھلائی ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

تورات کو دن میں داخل کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور توجس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے تو اس کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں سوائے اس کے کہ تم ان سے کسی طرح بچاؤ کرو اور اللہ تم کو اپنی سزا سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف انجام کار پہنچتا ہے۔

کہہ اگر جو کچھ تمھارے سینوں میں ہے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے نیکی کی ہے موجود پائے گا اور جو کچھ اس نے بدی کی ہے، آرزو کرے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا اور اللہ تم کو اپنی سزا سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

کہہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمھیں تمھارے گناہ بخش دے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

کہہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

الْخَيْرِ ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾  
تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي  
الْأَيَّامِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ  
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ  
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ  
مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
تَقِيَةً ط وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط  
إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٣٨﴾

قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُنِيَّوْهُ  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  
مُحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ لَوْ  
أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ط وَيَحْذَرُكُمْ  
اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَاللَّهُ سَرِيعٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٠﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ ط وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفْرِيْنَ ﴿٤٢﴾

اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیمؑ کے گھرانے اور عمران کے خاندان کو قوموں پر چن لیا۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ  
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾

یہ ایک سرے کی نسل سے تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی ایک عورت نے کہا۔ میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے آزاد کر کے تیری نذر مانا ہے پس مجھے سے قبول فرما کیونکہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾  
إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ  
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ  
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

پھر جب اسے جن، کہا میرے رب میں نے یہ لڑکی جنی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جن، اور لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں۔ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیسری پناہ میں دیتی ہوں۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا  
أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ  
الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ  
وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّاتَهَا مِنَ  
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۷﴾

سو اس کے رب نے اس کو اچھی قبولیت سے قبول کیا اور اس کو عمدہ پرورش سے بڑھایا اور اسے زکریا کے سپرد کیا جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں آتے اس کے پاس رزق پاتے کہا اے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا، اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا  
نَبَاتًا حَسَنًا ۗ وَكَلَّمَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ  
عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحَرَابِ لَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا  
قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّىٰ لَكَ هَذَا طَقَالَتْ هُوَ  
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ  
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ کہا میرے رب اپنی جناب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعا سننے والا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ  
لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ  
سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾

پھر فرشتوں نے اسے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑا نماز

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي

الْحَرَابِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا  
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا  
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۳۹

قَالَ رَبِّ اَتٰى يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَتْنِي  
الْكِبَرُ وَّ اُمْرًا نِّيْ عَاقِرًا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ  
اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝۴۰

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيٰتِكَ اَلَّا  
تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْرًا وَّ اَذْكُرْ  
سُرَّتْكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَّ الْاَبْحَارِ ۝۴۱

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ  
اصْطَفٰكِ وَّ طَهَّرَكِ وَّ اصْطَفٰكِ عَلٰى  
نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝۴۲

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَّ اسْجُدِيْ وَّ  
ارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝۴۳

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَّ  
مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ  
اَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۗ وَّ مَا كُنْتَ  
لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝۴۴

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ  
يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۗ اَسْمٰهُ الْمَسِيْحُ  
عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَّ جِيْهًا فِى الدُّنْيَا

پڑھ رہا تھا، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوش خبری دیتا ہے جو اللہ  
کے ایک کلام کو سچا کرنے والا اور سردار اور بدلوں سے رکنے  
والا اور نبی نیکو کاروں میں سے (ہوگا)۔

اس نے کہا میرے رب میرے بیٹا کیوں کر ہوگا اور مجھ پر  
بڑھا پا اچکا ہے اور میری عورت بانجھ ہے فرمایا اسی طرح ہوگا  
اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اس نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشان مقرر کر دے فرمایا  
تیرے لیے نشان یہ ہے کہ تین دن سوائے اشارہ کے لوگوں سے بات  
نہ کرے اور اپنے رب کو بہت یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔

اور جب فرشتوں نے کما لے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور  
تجھے پاک بنایا ہے اور قوموں کی عورتوں میں سے تجھے  
چُن لیا ہے۔

اے مریم! اپنے رب کی فرمانبرداری کر اور سجدہ کر اور  
مُجھک جانے والوں کے ساتھ مُجھک جا۔

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، جو ہم تیری طرف وحی کرتے  
میں اور تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنی قلمیں ڈالتے تھے کہ  
ان میں سے کون مریم کا قلم بنے اور نہ تو ان کے پاس تھا جب  
وہ آپس میں جھگڑتے تھے۔

جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک  
کلام کے ساتھ خوش خبری دیتا ہے۔ اس (مسیح) کا نام مسیح عیسیٰ بن  
مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں وجہ امت والا اور مقبول



میں سے ہوگا

اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا۔

اس نے کہا میرے رب میرے بیٹا کیوں کر ہوگا اور مجھے کسی انسان نے چھو نہیں، فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اُسے کتا ہے ہو پس وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بات لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیچڑ سے پرند کی شکل کی مانند تجویز کرنا ہوں پھر اس کے اندر چھوکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اُڑنے والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے۔

شب کو راور پھلو ہری والے کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مڑوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھو اس کی خبر دیتا ہوں، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشان ہے اگر تم مومن ہو۔

اور اس کی تصدیق کرنے والا جو تورات میں سے مجھ سے پہلے ہے اور تاکہ اس کا کچھ حصہ تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب ایک پیغام لایا ہوں، پس اللہ کا تقوے اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

وَ الْأَخِرَةَ وَ مِنَ الْمَقَرِّبِينَ ﴿٤٥﴾  
وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا  
وَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

قَالَتْ رَبِّ أَلَيْسَ لِي وَ كَدًّا وَ لَمْ  
يَمَسُّنِي بَشَرٌ قَالِ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ  
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾  
وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ  
وَ الْإِنْجِيلَ ﴿٤٨﴾

وَ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ  
جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي آخِذٌ  
لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ  
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  
أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي  
بُيُوتِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُمْ إِن  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ  
وَ الْإِنْجِيلِ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ﴿٥٠﴾

اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو  
یہی سیدھا سستا ہے

پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ کے  
دین میں میرے مددگار ہیں۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے  
دین کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور گواہ رہ کہ  
ہم فرمانبردار ہیں

اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور رسول کی  
پیروی کی پس تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ۔

اور زکافروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب بیکر میو لوں سے چھاپو  
جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں  
اور تجھے اپنی طرف

بلند کرنے والا ہوں اور تجھے ان کے الزام سے پاک کر نیوالا

ہوں جو کافر ہیں اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان چنچھوں نے انکار کیا قیامت  
کے دن تک نفی تے دینے والا ہوں پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ آنا ہے پس  
میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے ﴿۵۶﴾  
سو وہ جنہوں نے انکار کیا میں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت دکھ کا  
عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار  
نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے سو  
ان کے اجر ان کو پورے دے گا اور اللہ نیکوں سے  
محبت نہیں کرتا۔

یہ ہم آیتوں اور حکمت والے ذکر سے تجھ پر پڑھتے

إِنَّ اللَّهَ سَرِيٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا  
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ  
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ  
نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ  
بِآثَاتِ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾

وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَ  
رَافِعُكَ إِلَيَّ

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ  
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا لَكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۵﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

مَنْ يُصْرِيبُ ﴿۵۶﴾

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَيُوقِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾

ذَلِكَ نَسَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ

## الْحَكِيمِ ۵۸

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ  
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ ۵۹

ہیں۔

بیشک عیسیٰ کی حالت اللہ کے نزدیک آدم کی حالت کی  
مانند ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے کہا ہو جا، پس وہ  
ہو جاتا ہے۔

حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس تو جھگڑا کرنے والوں میں نہ ہو۔

پھر اگر کوئی اس کے بعد جو تیرے پاس علم آچکا، اس کے بارے میں  
تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تھامے  
بیٹوں کو اور اپنی عورتوں اور تمھاری عورتوں کو اور اپنے لوگوں  
اور تھامے لوگوں کو بلائیں پھر گڑا گڑا کر دعا کریں اور جھوٹوں پر  
اللہ کی لعنت کریں۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَرِينَ ۶۰  
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا  
وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا  
وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ  
اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ۶۱

یقیناً یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود  
نہیں اور یقیناً اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔  
اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ  
إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۶۲  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۶۳

کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان  
اور تمھارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت  
نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی  
کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے اور اگر وہ پھر جائیں تو تم کو گواہ  
رہو کہ ہم فرماں بردار ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ  
بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ  
بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا  
بِآثَانَا مُسْلِمُونَ ۶۴

اے اہل کتاب تم ابراہیمؑ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو  
حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی اتاری گئیں۔ پھر کیا تم  
عقل سے کام نہیں لیتے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ  
وَمَا أُنزِلَتْ التَّوْرَةُ وَ الْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ  
بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۶۵

هَٰئِنَّمْ هُوَ لَآءٍ حَاجِبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
فَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  
وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾  
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا  
لَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۷﴾

إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لََّذِينَ اتَّبَعُوهُ  
وَهَذَا الشَّيْبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَٱللَّهُ  
وَلىُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾  
وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَآبِ لَو  
يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ  
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۹﴾

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَةِ  
ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۴۰﴾

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَآبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ  
وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾  
وَ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَآبِ آمَنُوا  
بِٱلَّذِي نَزَلَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَجِبَ ٱلْ  
تَّهَارِ ۗ وَٱلْكَفَرُوا ۗ ٱخْرَجَهُم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۲﴾

وَ لَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِسَنِّ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ  
ٱلْهُدَىٰ هُدَىٰ ٱللَّهِ أَن يُوْتَىٰ أَحَدٌ مِّنْ  
مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يَحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ

سنو! تم وہ ہو جو اس میں جھگڑ چکے جس کا تم کو علم تھا،  
پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو علم نہیں۔ اور  
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، لیکن وہ راست و  
فرمانبردار تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ  
تھا۔

یقیناً ابراہیم سے بہت نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے  
اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ جو ایمان لائے  
اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔

اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کریں،  
اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور وہ محسوس  
نہیں کرتے۔

اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو،  
حالانکہ تم گواہ ہو۔

اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق  
کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔

اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کی ابتدا  
میں اس پر ایمان لے آؤ جو ان لوگوں پر اتارا گیا ہے جو  
ایمان لائے ہیں اور اس کے آخر میں انکار کرو تا کہ وہ لوٹ آئیں۔

اور سوائے اس کے کسی پر ایمان نہ لاؤ جو تمہارے دین پر چلے  
کہہ رکھو اہل کتاب کی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے کہ کسی شخص کو اس کی مش  
دیا جائے، جو تمہیں دیا گیا یا وہ تمہارے رب کے نزدیک تھا۔

إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۶﴾  
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۷﴾

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ  
بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ  
تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا  
دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾  
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷۶﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ  
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۳﴾  
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَسِنَّةَهُمْ بِالْأَيْدِي  
لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ  
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ  
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۴﴾

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ

ساتھ جھگڑا کرے گی کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے  
اسے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔  
وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ  
بڑے فضل والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے وہ ہے کہ اگر تو اس کو مال کے ڈھیر  
پر امین بنائے تو وہ اسے تجھے واپس دیدے اور ان میں سے  
وہ ہے کہ اگر تو اسے ایک دینار پر امین بنائے تو وہ اسے تجھے واپس  
نے سولے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ  
ہم پر ان امتوں کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں اور وہ اللہ پر  
جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔

ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے تو یقیناً  
اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔

وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لے  
لیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ اللہ ان سے کلام  
کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کریگا  
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو کتاب کے متعلق جھوٹ بناتے  
ہیں تاکہ تم اسے کتاب سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے  
اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف  
سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور  
وہ جانتے ہیں۔

کسی بشر کے لیے رشایاں نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور

وَالْحُكْمَ وَالشُّبُهَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ  
كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ  
كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكُتُبَ  
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٦﴾

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ  
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا  
آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ  
رَسُولٌ مُمِصِدٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  
عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ  
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾  
فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

أَفْغَيْرَ دِينٍ اللَّهُ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ  
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ  
كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٢﴾

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَ  
مَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ  
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ  
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

حکم اور نبوت دے ، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کو  
چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ لیکن (وہ کہتا ہے)  
تم ربانی ہو جاؤ اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے تھے  
اور اس لیے کہ تم (اسے) پڑھتے تھے۔

اور نہ یہ کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں  
کو خداوند بنا لو کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا اس کے  
بعد کہ تم مسلم ہو چکے ہو۔

اور جب اللہ نے نبیوں کے ذریعہ سے عہد لیا کہ جو کچھ  
میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے پھر تمہارے  
پاس وہ رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو، جو تمہارے  
پاس ہے تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی  
ہوگی کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کا بوجھ لیتے ہو انھوں نے کہا  
ہم اقرار کرتے ہیں کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔  
پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی بد عہد  
ہیں۔

تو کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہیں اور جو  
آسمانوں اور زمین میں ہیں خوش اور ناخوش اسی کے فرمانبردار  
ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا  
اور اس پر جو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب  
اور (اس کی) اولاد پر اتارا گیا۔ اور جو موسیٰ  
اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا

ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرماں بردار ہیں۔

اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتا ہے، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اللہ ان لوگوں کو کس طرح ہدایت کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے اور وہ گواہ ہیں کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی دلیلیں آچکیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور لوگوں سب کی لعنت ہے۔

اس میں رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔

مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کی تو اللہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے۔

جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور وہی گمراہ ہیں۔

جو کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیہ دے ان کے لیے درزناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ذَوْ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۴﴾

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۵﴾

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۶﴾

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۗهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۷﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۸﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۸۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا ۗ لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَهُمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِتُونَ ﴿۹۰﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۗ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ۖ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۹۱﴾